

SALTOC Project

Title: Islām aur 'aṣr-i-jadīd

Imprint: Na'ī Dillī: Muḥammad Hafīzuddīn

New Delhi: Zakir Husain Institute of Islamic Studies,
Jamia Millia Islamia University

OCLC: 6727848

Volume 14, no. 2, April 1982

TOC Supplied By: Center for Research Libraries

ISLAM AUR ASR-I-JADEED

ZAKIR HUSAIN INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi-110025.

کیا
آپ کی روزانہ کی خوراک سے
آپ کے بدن کو پوری قوت اور
پورا فائدہ ملتا ہے؟



اپنی روزمرہ خوراک سے صحیح تغذیہ حاصل کرنا
اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا نظام ہضم کتنا
ٹھیک اور طاقتور ہے۔

سنکارا ہی ایک ایسا ٹانگ ہے جس میں
طاقت دینے والے ضروری وٹامنوں اور معدنی
اجزاء کے ساتھ چھوٹی الائچی، لونگ، دھنیا،
دارچینی، تیز پات، تلسی وغیرہ جیسی چودہ جڑی
بوٹیاں شامل ہیں۔ اس مرکب سے آپ کے
نظام ہضم کو طاقت ملتی ہے اور آپ کا بدن
اس کی مدد سے آپ کی روزمرہ خوراک سے
صحیح تغذیہ اور بھرپور قوت حاصل کرتا ہے۔

سنکارا

ہر موسم اور ہر عمر میں
سب کے لیے بے مثال ٹانگ

فہرست مضامین

- ۱۔ اسلام اور مستشرقین
ایک تاریخی سینار (اداریہ) ضیاء الحسن فاروقی ۵
- ۲۔ عصر حاضر کے ایران میں اقبال کی معنویت
ڈاکٹر کبیر احمد جاسمی (پبلک) ۱۳
- ۳۔ قرآن مجید کے بعض اسالیب
مولانا ضیاء الدین اصلاحی ۳۲
- ۴۔ اسلامی فکر میں فلسفہ کا آغاز و ارتقاء
جناب شبیر احمد خاں غوری ۵۱
- ۵۔ مغربی ایشیا کے ترکوں کا بکتاشی سلسلہ
ڈاکٹر اکمل ایوبی ۷۲